



Lakeridge
Health

24 اگست، 2020

عزیز دوستو اور ہمسائیو،

28 جولائی کو اونٹاریو کی حکومت نے Lakeridge Health اور Infrastructure Ontario کے ساتھ ایک اشتراکی پارٹنرشپ کا اعلان کیا تا کہ تیز تر تعمیراتی عمل استعمال کرتے ہوئے Ajax Pickering Hospital کی زمین پر ایک نیا، جدید اور طویل مدتی نگہداشتی (LTC) گھر تعمیر کیا جائے۔ ہم آپ کو اپنی پیش رفت کے بارے میں تازہ ترین معلومات بخوشی پیش کر رہے ہیں۔

بروز جمعرات، 27 اگست کو، ہم تیز تر تعمیراتی عمل کی تیاری میں اگلے اقدامات لے رہے ہیں۔ سائٹ کا زمینی جائزہ شروع ہو گا اور اس کام میں اندازاً 10 دن لگیں گے۔ ہم اور ہمارے حکومتی پارٹنرز نے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 2021 کا ہدف رکھا ہے۔

سائٹ کے معائنے کا کام معمول کے کاروباری اوقات میں انجام دیا جائے گا۔ قریبی رہائشیوں کے لیے ہمیں کسی خلل کی توقع نہیں ہے؛ تاہم زمینی نمونوں کی جمع آوری کے دوران کچھ گرد کے ذرات اور شور پیدا ہو گا۔ کام تعمیراتی سائٹ کے تمام اصولوں کے مطابق ہو گا اور جب کام مکمل ہو جائے گا تو تمام زمینی رکاوٹوں کو حفاظت سے ڈھانپا جائے گا۔ ہم اپنی کمیونٹی، خصوصاً گردنواح کے رہائشیوں کو اپنی پیش رفت سے آگاہ کر رہے ہیں۔

320 بستروں پر مشتمل نیا LTC گھر جدید ڈیزائن/تعمیری عمل استعمال کر کے بنایا جائے گا۔ گھر کا جدید ڈیزائن، بشمول انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کی صلاحیتوں کے بہترین طرز عمل اور رہائشیوں کے رہنے کے حصے مختلف ضروریات اور صلاحیتوں کے ساتھ بڑی عمر کے افراد کی صحت اور سلامتی کو فروغ دیں گے۔ اس نئے جدید ترین مرکز کے ساتھ، Durham کا علاقہ انتہائی ضروری اضافی طویل مدتی نگہداشت کی صلاحیت کا حامل بن جائے گا اور کمیونٹی اعلیٰ معیار کی LTC خدمات تک تیز تر رسائی کے قابل ہو گا۔

اگر آپ کے کوئی مزید سوالات ہوں یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو براہ کرم 8711-576-905 ایکسٹنشن 34167 پر کال کریں یا AjaxLTC@lh.ca پر ای میل کریں۔

ہم اس صلاحیت میں اضافے کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو ہمارے نظریے یعنی ایک نظام کو پورا کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ بہترین صحت کے متمنی۔

مخلص،

Mark Murphy
سینیئر ڈائریکٹر، Capital Planning & Development